



## سوال

کن کن دنوں میں بہمستری کرنا جائز یا ناجائز ہے۔؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

سال کے وہ کون کون سے دن ہیں جن میں بیوی سے بہمستری کرنا گناہ حرام یا مکروہ ہے یا ایسے کون سے دن ہیں جن میں بہمستری جائز نہیں ہے، یا آنے والے بچے کے لیے نقصان یا ایسے کوئی دن جن کا احترام کرنا چاہیے تفصیل سے جواب دیں۔؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہو تو سال کے ہر دن اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی ایک شرعی ضرورت ہے، اگر صحت کمزور ہو رہی ہو تو اس عمل میں مناسب وقفہ ضروری ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... ۱۹۰ ... سورة البقرة

تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

اسی طرح دوران حمل اگر بچے کی صحت کو خطرہ ہو تو بھی اس عمل سے اجتناب کرنا چاہئے۔ ورنہ کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

ہاں البتہ اس میں یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ دوران حیض اور جائے پانخانہ میں جماع کرنا حرام ہے۔

هدا ما عنہم والحمد للہم بالصواب

فتویٰ کیٹی

محدث فتویٰ

